



قائد اعظم ٹرافی فرسٹ ایون ٹورنامنٹ کے تیسرے راؤنڈ کا تیسرا روز مکمل

کراچی، 8 نومبر 2020ء:

این بی پی اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں جاری میچ میں سدرن پنجاب کو جیت کے لیے مزید 250 رنز جبکہ کے پی کو 10 وکٹیں درکار ہیں۔ مختار احمد 8 اور ذیشان اشرف 4 کے انفرادی اسکور سے میچ کے آخری روز کھیل کا آغاز کریں گے۔ خیبر پختونخواہ سدرن پنجاب کو جیت کے لیے 263 رنز کا ہدف دے رکھا ہے۔ اس سے قبل 16 رنز کی برتری سے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی کے پی کی ٹیم میچ کے تیسرے روز کھیل کے اختتام پر 246 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اوپنر مصدق احمد 86 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ ریحان آفریدی اور ذویب خان نے چھٹی وکٹ کے لیے 77 رنز کی شراکت قائم کی۔ ریحان آفریدی 51 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ذویب خان کو فاسٹ باؤلر محمد عباس نے 40 رنز پر پویلین واپس بھجوا دیا۔ میچ کی پہلی اننگز میں 6 وکٹیں حاصل کرنے والے تجربہ کار فاسٹ باؤلر محمد عباس نے دوسری اننگز میں 39 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کیں۔ اس سے قبل کے پی کے 304 رنز کے جواب میں سدرن پنجاب کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 288 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ حسین طلعت 131 اور محمد عرفان 73 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اسپنر ساجد خان نے 71 رنز دے کر 6 وکٹیں اپنے نام کیں۔

یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں جاری میچ میں سندھ کو ناردرن کے خلاف شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ 423 رنز کے تعاقب میں سندھ نے اپنی دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 77 رنز بنالیے ہیں۔ ناردرن کو میچ کے آخری روز جیت کے لیے مزید 7 وکٹیں جبکہ سندھ کو مزید 346 رنز درکار ہیں۔ سندھ کے اوپنر خرم منظور (15)، شرجیل خان (12) اور اسد شفیق (1) رنز بنا کر آؤٹ ہو چکے ہیں۔ سعود شکیل 46 کے انفرادی اسکور سے میچ کے آخری روز کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ اس سے قبل 111 رنز کی سبقت سے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی ناردرن کی ٹیم نے سرمد بھٹی اور حماد اعظم کی سنچریوں کی بدولت 6 وکٹوں کے نقصان پر 311 رنز پر اپنی دوسری اننگز ڈکلیئر کر دی۔ دونوں بلے بازوں نے چھٹی وکٹ کے لیے 156 رنز کی شراکت قائم کی۔ سرمد بھٹی 108 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ حماد اعظم 100 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اسپنر محمد اصغر نے 2 وکٹیں اپنے نام کیں۔ پہلی اننگز میں ناردرن کے 328

رنز کے جواب میں سندھ کی پوری ٹیم 217 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ ناردرن کے کپتان نعمان علی نے 5 اور وقاص احمد نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا۔

نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جاری میچ میں بلوچستان نے اپنی دوسری اننگز میں سنٹرل پنجاب کے خلاف مجموعی طور پر 225 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے جبکہ اس کی ابھی تین وکٹیں باقی ہیں۔ 55 رنز کی سبقت سے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی بلوچستان کی ٹیم نے میچ کے تیسرے روز کھیل کے اختتام پر 7 وکٹوں کے نقصان پر 170 رنز بنالیے ہیں۔ علی وقاص 39 اور تیمور علی 34 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کاشف بھٹی 2 اور اسامہ میر 1 کے انفرادی اسکور سے میچ کے آخری روز کا آغاز کریں گے۔ سنٹرل پنجاب کے وقاص مقصود اور احسان عادل 2، 2 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ اس سے قبل بلوچستان کے 306 رنز کے جواب میں سنٹرل پنجاب کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 251 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سنٹرل پنجاب کے کپتان اظہر علی 63 رنز بنا کر ٹاپ اسکور رہے ہیں۔ انہیں عماد بٹ نے آؤٹ کیا۔ میڈیم پیسر عماد بٹ نے 57 رنز کے عوض 6 کھلاڑیوں کو پولین کی راہ دکھائی۔

ABOUT QUAID-E-AZAM TROPHY 2020-21:

- 31 matches to be played on a double-league basis with each side guaranteed a minimum of 10 first-class matches. For schedule, click [here](#)
- The event will be played under [Covid-19 protocols](#) at four venues in Karachi, namely National Stadium, National Bank of Pakistan Sports Complex, State Bank Stadium and UBL Sports Complex.
- Central Punjab will defend the title they won in 2019-20 after beating Northern by an innings and 16 runs in the final at National Stadium, Karachi. Other four sides are Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Southern Punjab
- The event will take a break after three rounds and will resume from 20 November following the conclusion of the remaining four HBL Pakistan Super League 2020 matches, which were postponed on 17 March due to Covid-19 pandemic.
- The winner of the tournament will receive PKR10million while the runner-up will collect PKR5million
- PKR500,000 will be handed out to tournament's top-performers and the player of the final will get PKR50,000
- Players to earn PKR60,000, per match the double-league format provides a high-performing player to earn, at least, PKR600,000. This is part of the PCB's strategy and commitment to enhance earning opportunities as well as to reward high-performing cricketers. Click [here](#) to read more

As part of the US\$200million agreement with PTV Sports and I-Media Communications Services, the event will be produced by the PCB and broadcasted live on PTV Sports. Click [here](#), to read more about the three-year agreement

**HELP PREVENT
CORONAVIRUS**



National Team Partners



